

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَرَبِّكَ الْبَاقِرَاتُ وَارْتَمَتْ بِالْمُؤْمِنِينَ

قرآن پاک کی معنوی تحریف اور فرقہ واریت کی نحوست سے محفوظ اُردو ترجمہ



عربی لغت کے عین مطابق بیک وقت لفظی اور باحاورہ آسان ترین اُردو ترجمہ

ترجمہ

پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

لاہور - کراچی
پاکستان

ضیاء المشرق پبلی کیشنز

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ

۵۸ مَكِّيَّةٌ ۱۰۵ آيَاتٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْبَيْتِ

۳ وَوَعَدْنَا

سورۃ المجادلہ مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی ۲۲ آیتیں اور ۳ رکوع ہیں

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى

بیشک اللہ تعالیٰ نے سن لی اسکی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں اور (ساتھ ہی) شکوہ کیے جاتی تھی

اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَمَا طَرِيقَ اللَّهِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۱ الَّذِينَ

اللہ سے (اپنے رنج و غم کا) اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو؛ بے شک اللہ (سب باتیں) سننے والا (سب کچھ) دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ

يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ فَأَهْنُ أَهْمَتُهُمْ إِنْ أَهْمَتْهُمْ إِلَّا

تم میں سے ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے وہ ان کی مائیں نہیں ہیں؛ نہیں ہیں ان کی مائیں بجز

الْأُمَّ وَالَّذِينَ هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ لِيُقُولُوا مِنْكُم مَّا كَرِهُوا لَكُمْ وَإِنْ

ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے؛ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ؛ اور بلاشبہ

اللَّهُ لَعَفْوٌ غَفُورٌ ۷ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ جو لوگ ظہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے پھر وہ پلٹنا چاہیں

لِمَا قَالُوا فَحَرِيْرٌ رَقِيْبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَأَ دِيْكُم تَوْعَدُونَ

اس بات سے جو انہوں نے کہی تو (خاوند) غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں؛ یہ ہے جسکا تمہیں حکم دیا جاتا

بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۳ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

ہے؛ اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو (اس سے) آگاہ ہے۔ پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ دو ماہ لگاتار روزے رکھے

مُتَتَابِعَيْنِ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَأَ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ

اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو کھانا کھلائے

سِتِّينَ مَسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِيُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ

ساتھ مسکینوں کو؛ یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول (کے فرمان) کی؛ اور یہ اللہ کی (مقرر کردہ)

اللَّهِ وَاللَّكْفِيْنَ عَذَابُ الْاٰلِمْ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَ

حدیں ہیں؛ اور منکرین کیلئے درد ناک عذاب ہے۔ بیشک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور

رَسُوْلِهِ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَوَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتِ

اسکے رسول کی انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ (مخالفین) جو ان سے پہلے تھے اور بیشک ہم نے اتاری ہیں روشن

بَيِّنَتْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا

آیتیں ؛ اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے - (یاد کرو) جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا

فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسَوْءَ مَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا ؛ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ بھلا چکے ؛ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر

شَهِيدٌ ۝ ۴ الْمَثَرَانِ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ

شاہد ہے - کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے ؛

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ

نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ میں مگر وہ

سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا

ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں

كَانُوا تَحْمِيْنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ۵

وہ ہوں ، پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو (کرتوت) وہ کرتے رہے قیامت کے دن ؛ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے -

الْمَثَرَالِي الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْنَا عَنْهُ

کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں (اسلام کے خلاف) سرگوشیوں سے روکا گیا پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا

وَيَسْتَجِوْنَ بِالْآثَمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۚ وَإِذَا

اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں ، اور جب

جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ

آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ (اگر یہ سچے رسول ہیں)

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبَهُمْ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَبِئْسَ

تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ؛ کافی ہے انہیں جہنم، اس میں داخل ہوں گے ، اور وہ بہت برا

الْمَصِيرُ ۝ ۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَّجِرُوا بِالْآثَمِ

ٹھکانا ہے - اے ایمان والو! جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ ،

وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَ

زیادتی اور (رسول کریم) کی نافرمانی کے متعلق بلکہ نیکی اور تقویٰ کے بارے میں مشورہ کیا کرو ؛ اور

اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۹﴾ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ

ڈرتے رہو اللہ سے جس کی (بارگاہ میں) تمہیں جمع کیا جائے گا۔ (کفار کی) سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں،

لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَ

تاکہ وہ غمزدہ کر دے ایمان والوں کو حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر؛ اور

عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ

اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اے ایمان والو! جب تمہیں کہا جائے

لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ

کہ (آنے والوں کے لیے) جگہ کشادہ کر دو مجلس میں تو کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا، اور جب کہا جائے

اسْتُرُوا فَأَسْتُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا

کھٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اور! اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو

الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

علم دیا گیا درجات بلند فرمائے گا؛ اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ اے ایمان والو!

إِذَا نَادَى الرَّسُولُ فَاقْبَلُوا بِمُنَادِيهِ ۗ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَاءَلُوا

جب تمہانی میں بات کرنا چاہو رسول (مکرم) سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو؛

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ ۗ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾

یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور (دلوں کو) پاک کرناوالی ہے؛ اور اگر تم (اس کی سکت) نہ پاؤ تو بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

ءِ اسْفَقْتُمْ ۗ إِن تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَى صَدَقْتُمْ ۗ فَإِذَا لَمْ

کیا تم (اس حکم سے) ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؛ پس جب

تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ

تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ نے تم پر نظر کریم فرمائی پس (اب) تم نماز صحیح صحیح ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

تابعداری کیا کرو اللہ اور اسکے رسول کی؛ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان (نادانوں) کی طرف

تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ مَا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ

جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا؛ نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے،

عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب؛

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا

بلاشبہ یہ لوگ بہت برے کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال پس وہ (اس طرح) روکتے ہیں

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۹﴾ لَنْ تَغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ

اللہ کی راہ سے سو ان کیلئے رسوا کن عذاب ہے۔ کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال

وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

اور نہ ان کی اولاد عذاب الہی سے بچانے کے لیے کچھ بھی؛ یہ لوگ جہنمی ہیں؛ یہ اس میں

خَالِدُونَ ﴿۲۰﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ

ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے

لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۲۱﴾ اسْتَحْوَذَ

ہیں اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہیں؛ خبردار! یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تسلط جمایا ہے

عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط

ان پر شیطان نے اور ان نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کر دیا ہے؛ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں؛

الْآنَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ

خوب سن لو! شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں

اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْهَانِ ﴿۲۳﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَ

اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب

رُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲۴﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

آکر رہیں گے؛ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور (اور) زبردست ہے۔ تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر (پھر)

الْآخِرِيَّوَأَدُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ

وہ محبت کرنے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خواہ وہ (مخالفتین) ان کے باپ ہوں یا

أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ

انکے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا انکے کنبہ والے ہوں؛ یہ وہ لوگ ہیں نقش کر دیا ہے اللہ نے انکے دلوں میں

الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيدْخُلُهُمْ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ

ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے ؛ اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں ، رواں ہیں

تحتها الأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَئِكَ

جن کے نیچے نہریں ، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ؛ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے ؛ یہ (بلند اقبال)

حِزْبُ اللَّهِ ۗ الْآرَاءُ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۲﴾

اللہ کا گروہ ہیں ؛ سن لو! اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے -

سُورَةُ الْحَشْرِ ۝ ۵۹ مَكِّيَّةٌ ۝ ۱۰۱ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ الحشر مدنی ہے اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے - اس میں ۲۴ آیتیں اور ۳ رکوع ہیں

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱﴾

اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے ، اور وہی سب پر غالب ، بڑا دانہ ہے -

هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ

وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرَجُوْا وَظَنُّوْا اَنْهُمْ مَّا نَعْتَهُمْ

پہلی جلاوطنی کے وقت ؛ تم نے کبھی یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے

حَصُوْنِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاتَّخَذُوْهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَ

قلعہ بچالیں گے اللہ (کے قہر) سے پس آیا ان پر اللہ (کا قہر) اس جگہ سے جس کا انہیں خیال بھی نہ آیا تھا ، اور

قَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بِيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَ

اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب چنانچہ وہ برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور

اَيْدِي الْمُوْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِي الْاَبْصٰرِ ﴿۲﴾ وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ

اہل ایمان کے ہاتھوں سے ، پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو - اور اگر نہ لکھ دی ہوتی

اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءُ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ

اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں ؛ اور ان کیلئے آخرت میں تو آگ کا

النَّارِ ﴿۳﴾ ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ شَاقُّوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ فَاِنَّ

عذاب ہے - ہی یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا

اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو تم نے چھوڑ دیا

قَائِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيْخِزْيَ الْفَاسِقِينَ ۝ وَمَا

کہ کھڑے رہیں اپنی جڑوں پر تو یہ (دونوں باتیں) اللہ کے اذن سے تھیں تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ اور جو

أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولٍ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِّنْ خَيْلٍ وَلَا

مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر تو نہ تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور

رِكَابٍ وَلَا كِنٍّ لِّلَّهِ يَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ

نواذت بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے؛ اور اللہ تعالیٰ ہر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے

فِي اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

تو وہ اللہ کا ہے، اسکے رسول کا ہے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں

السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمْ

کے لیے ہے تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان؛ اور

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهُكُمْ عَذَابٌ قَاتِلٌ هُوَ وَأَتَقُوا اللَّهَ ط إِنَّ

رسول (کریم) جو تمہیں عطا فرمادیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ، اور ڈرتے کرو رہا اللہ سے؛ بیشک

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ

اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (نیز وہ مال) نادار مہاجرین کیلئے ہے جنہیں (جبراً) نکال دیا گیا تھا

دِيَارِهِمْ وَأَفْوَاهِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُونَ

ان کے گھروں سے اور جائیدادوں سے یہ (نیک بخت) تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور (ہر وقت) مدد کرتے رہتے ہیں

اللَّهُ وَرَسُولَهُ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ

اللہ اور اسکے رسول کی؛ یہی راست باز لوگ ہیں اور (اس مال میں) ان کا بھی حق ہے۔ جو دارِ ہجرت میں مقیم ہیں

وَإِلِيمَانَ مِّنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ

اور ایمان میں (ثابت قدم) ہیں مہاجرین (کی آمد) سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے

فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ

اپنے سینوں میں کوئی غلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ

كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شَحًّا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔ اور جس کو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے تو وہی لوگ

الْمُقَلِّحُونَ ۙ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

با مراد ہیں - اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار!

اغْفِرْ لَنَا وَإِلْحَاؤَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي

ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور نہ پیدا کر ہمارے

قُلُوبِنَا غَلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۙ أَلَمْ تَرَ إِلَى

دلوں میں بغض اہل ایمان کے لیے اے ہمارے رب! بے شک تو رؤف، رحیم ہے۔ کیا آپ نے

الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ

منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا کیا اہل

الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعَ فِيكُمْ أَحَدًا

کتاب میں سے کہ اگر تمہیں (یہاں سے) نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہرزہ نہیں مانیں

أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۙ

گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے؛ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔

لَئِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ

(نہ لڑا) اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ انکی مدد نہیں کریں گے،

وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۙ لَأَنتُمْ أَشَدُّ

اور اگر (جی کڑا کر کے) انہوں نے انکی مدد کی تو یقیناً پوٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ (اے فرزند ان اسلام!) ان

رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۙ

(یہودیوں) کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے؛ یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرَىٰ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ دَرَاءٍ جَدِ

یہ بڑے بزدل ہیں کبھی اکٹھے ہو کر (کھلے میدان میں) تم سے جنگ نہیں کریں گے جنگ کریں گے تو قلعہ بند ستیوں میں یا دیواروں کی آڑ لے کر؛

بِأَسْمِهِمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدًا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ

ان کا اختلاف آپس میں بہت سخت ہے؛ تم انہیں متحد خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں؛ یہ

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا

اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے ابھی ابھی اپنے کرتوتوں کا مزہ

وَبِأَلْأَفْرِهِمْ وَالَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ

کچھ پکھے ہیں، اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے۔ منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی سی ہے جو (پہلے) انسان کو کہتا

لِلْإِنْسَانِ الْكَفْرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

ہے: انکار کر دے اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے: میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا

رب العالمین ہے۔ پھر ان دونوں (شیطان اور اسکے چیلے) کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے اس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے؛

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ

اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایمان والو! ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور ہر شخص کو دیکھنا چاہئے

نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کیلئے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے؛ بیشک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمُ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ

اور ان (نادانوں) کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو پس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا؛ یہی نافرمان

الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ

لوگ ہیں یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور اہل جنت؛ اہل

الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ

جنت ہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے

خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا

کہ وہ جھک جاتا (اور) پاش پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے؛ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ

لوگوں کیلئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا

ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز، کا وہی بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس کے

إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الرَّهْمَنُ الْعَزِيزُ

سوا کوئی معبود نہیں، سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا، نگہبان، عزت والا،

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ

ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، تکبر ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہی اللہ سب کا خالق، سب کو پیدا کرینوالا، (سب کی مناسب)

الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

صورت بناتا ہوا ہے، سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں؛ اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں،

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۴﴾

اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔

۶۰

سُورَةُ الْمُنْتَهَىٰ ﴿۶۰﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ المنتہ مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں ۱۳ آیتیں اور ۲ رکوع ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

اے ایمان والو! نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو (اپنے) جگری دوست،

تَتَّقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

تم تو اظہارِ محبت کرتے ہو ان سے، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں (اس دین) حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے،

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

انہوں نے نکالا ہے رسول (مکرم) کو اور تمہیں بھی (مکے سے) محض اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے؛ اگر تم

خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ

جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں اور میری رضا جوئی کے لیے (تو انہیں دوست مت بناؤ) تم بڑی راز داری سے ان کی طرف

بِالْمُودَةِ ۚ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ

محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا؛ اور جو ایسا کرے تم میں سے

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ إِنْ يَتَّفِقُوا يَكُونُوا أَعْدَاءً

تو وہ بھٹک گیا راہِ راست سے۔ اگر وہ تم پر قابو پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے

وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿۲۰﴾

اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبائیں برائی کے ساتھ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم (ان کی طرح) کافر بن جاؤ۔

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ

نہ نفع پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد، روز قیامت، اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان؛

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۱﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ

اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ بیشک تمہارے لیے خوب صورت نمونہ ہے ابراہیم

وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِبْرَاءُ وَأَمْنُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

اور ان کے ساتھیوں (کی زندگی) میں، جب انہوں نے (بر ملا) کہہ دیا اپنی قوم سے کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور ان معبودوں سے جنکی تم پوجا کر رہو

مَنْ دُونَ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَال

اللہ کے سوا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور پیدا ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کیلئے عداوت اور

الْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ

بغض یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے

لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمَلُكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيكَ

کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع کا؛ (پھر کہا) اے ہمارے رب!

تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۲﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں نہ بنا دے فتنہ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۳﴾ لَقَدْ

کافروں کے لیے اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب! بیشک تو ہی عزت والا (اور) حکمت والا ہے۔ بے شک

كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

تمہارے لیے ان میں خوبصورت نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور روز قیامت کا امیدوار ہے؛

وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۴﴾ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ

اور جو روگردانی کرے (اس سے) تو بلاشبہ اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا یقیناً اللہ پیدا فرما دے گا

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ

تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم (اس کی رضا کے لیے) دشمنی رکھتے ہو محبت؛ اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے؛ اور اللہ تعالیٰ

عَفُورًا رَجِيمًا ۷ لَا يَنْفَعُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي

غفور ، رجم ہے - اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ

الَّذِينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۸

نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو؛

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۸ إِنَّمَا يَنْفَعُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے - اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے

قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْكُمْ

جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا مدد دی

إِخْرَاجَكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۹ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۹

تمہارے نکالنے میں کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بناتے ہیں تو وہی (اپنے آپ پر) ظلم توڑتے ہیں -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۱۰

اے ایمان والو! جب آجائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کرو؛

اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف

إِلَى الْكُفَّارَاتِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا

مت واپس کرو؛ نہ وہ حلال ہیں کفار کیلئے اور نہ وہ (کفار) حلال ہیں مومنات کیلئے؛ اور دے دو کفار کو جو مہر

أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۱۱

انہوں نے خرچ کیے؛ اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو؛

وَلَا تَسْأَلُوا بِعِصْمِ الْكُوفَرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۱۲

اور (اسی طرح) تم بھی نہ روکے رکھو (اپنے نکاح میں) کافر عورتوں کو اور ماگ لوجو تم نے (ان پر) خرچ کیا اور کفار بھی ماگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا؛

ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۱۰ وَإِنْ فَاتَكُمْ

یہ اللہ کا فیصلہ ہے؛ وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے؛ اور اللہ (سب کچھ) جاننے والا بڑا دانہ ہے - اور اگر بھاگ جائے تم سے

شَيْءٌ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ

کوئی عورت تمہاری بیبیوں سے کفار کی طرف پھر تمہاری باری آجائے (کہ کوئی کافر تمہارے قبضہ میں آجائے) تو

أَزْوَاجَهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَالثَّقَوَاللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ بِمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

جن کی بیویاں انکے قبضہ سے نکل گئیں جتنا انہوں نے خرچ کیا اتنا انہیں دے دو؛ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا

اے نبی (مکرم) جب حاضر ہوں آپکی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ

يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی

وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يَفْتَرِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا

اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان اور نہ

يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ

آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں تو (اے میرے محبوب!) انہیں بیعت فرمالیا کرو اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کرو؛ بیشک

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

اللہ تعالیٰ غفور، رحیم ہے۔ اے ایمان والو! نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے

اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤَانِ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكُفَّارُونَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿۱۳﴾

اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ آخرت (کے ثواب سے) مایوس ہو گئے ہیں جیسے وہ کفار مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں ہیں۔

سُورَةُ الصَّفِّ
۱۱ مَدَنِيَّةٌ ۱۰۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱﴾

اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین ہے، اور وہی سب پر غالب، بڑا دانا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۲﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ

اے ایمان والو ! تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بڑی ناراضگی کا باعث ہے

اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۳﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ

اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان (مجاہدوں) سے جو اس کی راہ میں

فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بَنِيَانٌ قَرُصُوصٌ ﴿۴﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى

جنگ کرتے ہیں پرا باندھ کر گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے

لِقَوْمٍ يَقَوْمُ لَهُ تُؤَدُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! تم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؛

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

پس جب انہوں نے مجھ کی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا؛ اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے: اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي

میں تصدیق کرنے والا ہوں تو رات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے اور مژدہ دینے والا ہوں ایک رسول کا جو شریف لائے گا

مِنْ بَعْدِي اسْمًا أَحَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا

میرے بعد اس کا نام (نامی) احمد ہوگا؛ پس جب وہ (احمد) آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا: یہ

سِحْرٌ قَدِيمٌ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ

تو کھلا جادو ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے حالانکہ

هُوَ يَدْعُنِي إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف؛ اور اللہ تعالیٰ (ایسے) ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ

یہ (نادان) چاہتے ہیں کہ بھجائیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا خواہ سخت ناپسند کریں اس کو

الْكُفْرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

کافر - وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ

سب دینوں پر خواہ سخت ناپسند کریں اس کو مشرک - اے ایمان والو! کیا

أَدْلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُحْجِكُمْ مِنْ عَذَابِ آلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ

میں آگاہ کروں تمہیں ایسی تجارت پر جو بچالے تمہیں دردناک عذاب سے۔ (وہ تجارت یہ ہے کہ) تم ایمان لاؤ اللہ اور

رَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ

اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے؛ یہی طریقہ

خَيْرَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۱ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ

تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم (حقیقت کو) جانتے ہو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے گا تمہیں باغات میں،

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَسُكُنَ طَيْبًا فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ

رواں ہیں جن کے نیچے نہریں اور پاکیزہ مکانوں میں جو سدا بہار باغوں میں ہیں؛ یہی

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۲ وَآخِرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصَرَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَ

بڑی کامیابی ہے، اور ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے (وہ بھی ملے گی) یعنی اللہ کی جناب سے نصرت اور فتح جو بالکل قریب ہے؛ اور

بَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ

(اے حبیب!) مومنوں کو (یہ) بشارت سنا دیجئے۔ اے ایمان والو! اللہ کے (دین کے) مددگار بن جاؤ جس طرح کہا تھا

عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ

عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے: کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف بلانے میں؟ حواریوں نے

الْحَوَارِيُّونَ مَخْنُ أَنْصَارَ اللَّهِ فَأَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

جواب دیا: ہم اللہ کے (دین کے) مددگار ہیں، پس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل سے

وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدَّتِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۱۴

اور کفر کیا دوسرے گروہ نے، پھر ہم نے مدد کی جو ایمان لائے دشمنوں کے مقابلہ میں، بالآخر وہی غالب رہے۔

سُورَةُ الْجُمُعَةِ ۴۲ مَكِّيَّةٌ ۱۱۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ الجمعہ مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس کی ۱۱ آیتیں اور ۲ رکوع ہیں

يُسَبِّحُ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ

اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، زبردست ہے،

الْحَكِيمِ ۱ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا فَهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

حکمت والا ہے۔ وہی (اللہ) جس نے مبعوث فرمایا امتوں میں ایک رسول انہیں میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں

آيَاتِهِ وَيُذَكِّرُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ

اسکی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان (کے دلوں) کو اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۲ وَالْآخِرِينَ فَهُمْ لَكِنَّا يَكْفُرُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ

کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسرے لوگوں کا بھی ان میں سے (تذکیر کرتا ہے) تعلیم دیتا ہے) جو ابھی ان سے آکر نہیں ملے؛ اور وہی سب پر غالب،

الْحَكِيمُ ۳) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے عطا فرماتا ہے اسے جسے چاہتا ہے؛ اور اللہ تعالیٰ صاحبِ فضل

الْعَظِيمُ ۴) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّورَاتِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ

عظیم ہے۔ ان کی مثال جنہیں تو رات کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا

الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَالَهَا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ

اس گدھے کی سی ہے جس نے بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہوں؛ (اس سے بھی زیادہ) بُری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا

اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۵) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادَوْا

اللہ کی آیتوں کو؛ اور اللہ تعالیٰ (ایسے) ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آپ فرمائیے: اے یہود یوں!

إِنْ زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمُوتُوا

اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ (دوست) نہیں ہیں تو ذرا مرنے کی آرزو تو کرو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۶) وَلَا يَمُنُونَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ

اگر تم ہو سچے۔ اور (اے حبیب!) وہ اس کی تمنا بھی نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکے ہیں

وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِالظَّالِمِينَ ۷) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ

اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آپ (انہیں) فرمائیے: یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو

قَاتِلٌ مُّلقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

وہ ضرور تمہیں بل کرے گی پھر لوٹا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہرچھپے اور ظاہر کو پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ

ان (اعمال) سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو! جب (تمہیں) بلایا جائے نماز کی طرف

يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

جمعہ کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور (فورا) چھوڑ دو خرید و فروخت؛ یہ تمہارے لیے بہتر ہے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۹) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

اگر تم (حقیقت کو) جانتے ہو۔ پھر جب پُری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۰)

اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفصوا إليها وتركوك قائلًا قُلْ مَا

اور (بعض لوگوں نے) جب دیکھا کسی تجارت یا تماشا کو تو بکھر گئے اس کی طرف اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا، (اے حبیب ﷺ! انہیں) فرمائیے کہ جو نعمتیں

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۱۱

اللہ کے پاس ہیں وہ کہیں بہتر ہیں لہو اور تجارت سے ؛ اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔

سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ ۳۳ مَكَّةَ نَبِيَّهَا ۱۱

سورہ المنفقون مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں ۱۱ آیتیں اور ۲ رکوع ہیں

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَوْ أَنَّهُمْ لَدَارُوا لَدَارُ اللَّهِ وَاللَّهُ

(اے نبی! کرم) جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں؛ اور اللہ تعالیٰ

يَعْلَمُ أَنَّكَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۱

بھی جانتا ہے کہ آپ بلاشبہ اس کے رسول ہیں؛ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے؛ اسی طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے؛ بے شک یہ لوگ بہت بُرے کرتوت ہیں جو

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۲ ذَلِك بِأَنَّهُمْ امْتَنَوْا وَفَطَعُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ

یہ کر رہے ہیں۔ (ان کا) یہ (طریق کار) اس لیے ہے کہ وہ (پہلے) ایمان لائے پھر وہ کافر بن گئے پس مہر لگادی گئی اسکے دلوں پر

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۳ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ط وَاتَّ

تو (اب) وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے؛ اور اگر

يَقُولُوا سَمِعْنَا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِدَّةٍ ط يَحْسَبُونَ كُلَّ

وہ گفتگو کریں تو توجہ سے آپ ان کی بات سنیں گے؛ (درحقیقت) وہ (ریکا) لکڑیوں کی مانند ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہوں؛ گمان کرتے ہیں کہ ہر

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ ط قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمُ الْيَافُكُونَ ۴

گرج ان کے خلاف ہی ہے؛ یہی حقیقی دشمن ہیں پس آپ ان سے ہوشیار رہیے؛ ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ، کیسے سرگرداں پھرتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا أَرْسُوفَهُمْ وَ

اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو (انکار سے) اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور

رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۵ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ

تو انہیں دیکھے گا کہ وہ (حاضری سے) رُک رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ یکساں ہے ان کیلئے کہ آپ طلب مغفرت کریں

لَمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

ان کیلئے یا طلب مغفرت نہ کریں ان کیلئے؛ اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشنے گا انہیں؛ بیشک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی

الْفٰسِقِيْنَ ﴿٤﴾ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ

رہبری نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں: نہ خرچ کرو ان (درویشوں) پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے

اللّٰهِ حَتّٰی يَنْفَضُوْا ۗ وَ لِلّٰهِ خَزَايِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنّ

ہیں یہاں تک کہ وہ (بھوک سے تنگ آکر) بڑبڑھ جائیں؛ اور اللہ کے لیے ہی ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے لیکن

السُّنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٥﴾ يَقُوْلُوْنَ لِيْن رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ

منافقین (اس حقیقت کو) سمجھتے ہی نہیں۔ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ میں

لِيُخْرِجَنَّ الْاَعْرَضُ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۗ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

تو نکال دیں گے عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو؛ حالانکہ (ساری) عزت تو صرف اللہ کیلئے، اسکے رسول کیلئے اور ایمان والوں کیلئے ہے

وَ لٰكِنّ السُّنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَرْهَبُوْهُم

مگر منافقوں کو (اس بات کا) علم ہی نہیں۔ اے ایمان والو! تمہیں غافل نہ کر دیں

اَمْوَالَهُمْ وَ لَا اَوْلَادَهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۗ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے؛ اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ

هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٧﴾ وَ الْفُقَرٰٓءُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِي

گھائے میں ہوں گے۔ اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے پیشتر کہ آجائے

اِحْدَاكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْلَا اٰخِرْتَنِيْ اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ

تم میں سے کسی کے پاس موت تو (اس وقت) وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑی مدت کیلئے کیوں مہلت نہ دی

فَاَصْدَقَ وَاَكُنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨﴾ وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا

تاکہ میں صدقہ (خیرات) کر لیتا اور نیکیوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب

جَاءَ اَجَلُهَا ۗ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩﴾

اس کی موت کا وقت آجائے؛ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔

سُوْرَةُ التَّغٰبِيْنَ ۙ ۱۰۸ مَدَنِيَّةٌ ۙ ۱۰۸

سورہ التغابن مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں ۱۸ آیتیں اور ۲ رکوع ہیں

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور

هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ

وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض

مُؤْمِنُونَ ۝۲ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

مومن ہیں؛ اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۝۴ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ يُعَلِّمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا، اور اسی کی طرف (سب نے) لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تَعْلَمُونَ ۝۵ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۶

اور زمین میں ہے نیز وہ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو؛ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سینوں میں (پوشیدہ) ہے۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَنَادُوا بِطُغْيَانٍ لَهُمْ

کیا نہیں آئی تمہارے پاس انکی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پس چکھ لیا انہوں نے اپنے کام (یعنی کفر) کا وبال اور ان کیلئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۷ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا

(آخرت میں) درد ناک عذاب ہے۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے انکے پاس انکے پیغمبر روشن نشانیوں لے کر پس وہ بولے:

إِبْرَاهِيمَ هَدُونَا فَكَفَرُوا وَتَوَكَّلُوا ۝۸ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۹

کیا انسان ہماری رہبری کریں گے، پس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ (بھی) ان سے) بے نیاز ہو گیا؛ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب خوبوں والا ہے۔

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۝۱۰ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ

گمان کرتے ہیں کفار کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا؛ فرمائیے: کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا پھر

لَتُبْعَثُنَّ بِمَا عَمَلْتُمْ ۝۱۱ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۱۲ فَاٰمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے؛ اور یہ اللہ کیلئے بالکل آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ اور اسکے رسول پر

وَالتَّوْرَ الَّذِي اَنْزَلْنَا ۝۱۳ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۴ يَوْمَ يُجْعَلُ لِيَوْمِ

اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے؛ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا

الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمِ التَّغَابُنِ ۝۱۵ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِّرْ

جمع ہونے کے دن یہی گھائے کے ظہور کا دن ہے؛ اور جو ایمان لے آیا اللہ پر اور نیک عمل کرتا رہا، اللہ ڈور فرمادے گا

عَنْ سَيِّئَةٍ وَيَدْخُلُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ

اس سے اس کے گناہوں کو اور داخل فرمائے گا اسے باغوں میں، رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے

فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۹ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

تاابد یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو تھٹھرایا

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَلِيدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۱۰ مَا أَصَابَ

وہ دوزخی ہوں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے؛ اور یہ بہت بُری پلٹنے کی جگہ ہے۔ نہیں پہنچتی (کسی کو)

مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ

کوئی مصیبت بجز اللہ کے اذن کے؛ اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اُس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے؛ اور

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۱۱ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ

اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول (مکرم) کی؛ پھر اگر

تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۱۲ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ

تم نے زور دانی کی تو (تمہاری قسمت) ہمارے رسول کے ذمہ فقط کھول کر (پیغام) پہنچاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں؛ پس

عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا

اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو! تمہاری کچھ

أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا تَصِفُّوْا

پیشیاں اور تمہارے کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ہوشیار رہو ان سے، اور اگر تم غفو و درگزر سے کام لو

وَتَعَفَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۴ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ

اور بخش دو تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفور، رحیم ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں؛ اور

اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۱۵ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا

اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ پس ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے اور (اللہ کا فرمان) سنو اور اسے مانو

وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّلْأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَهْرًا نَفْسًا فَأُولَئِكَ هُمُ

اور (اس کی راہ میں) خرچ کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے؛ اور جنہیں بچایا گیا ان کے نفس کے بچل سے تو یہی لوگ

الْمُقَاتِلُونَ ۱۶ إِن تَقْرَضُوا مِنَ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ

فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو تو وہ اُسے کئی گنا کرے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا

لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۱۷ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۸

تمہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا قدر دان (اور) بہت حلم والا ہے، ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا ہے، سب پر غالب، بڑا دان ہے۔

سُورَةُ الطَّلَاقِ ۶۵ مَكِّيَّةٌ ۹۹ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰیٰتُهَا ۱۳ وَحُكْمُهَا ۲

سورہ طلاق مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں ۱۳ آیتیں اور ۲ رکوع ہیں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ

اے نبی (مکرم)! (مسلمانوں سے فرماؤ) جب تم (اپنی) عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دوانکی عدت کو طوطظر رکھتے ہوئے اور شمار کرو عدت کو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ

بجز اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا؛ اور یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں؛ اور جو تجاوز کرتا ہے حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

اللہ کی حدوں سے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا؛ تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذٰلِكَ أَمْرًا ۱۱ فَاذْ أَبْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسَكُوهُنَّ مَعْرُوفًا وَأَفَارِقُوهُنَّ

کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ یا جدا کر دو بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

انہیں بھلائی کے ساتھ اور گواہ مقرر کر لو دو معتبر آدمی اپنے میں سے اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو؛ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ

ان باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یومِ آخرت پر؛ اور جو (خوش بخت) ڈنتا رہتا ہے اللہ يَجْعَلْ لَّهِ فَرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ

اللہ تعالیٰ سے، بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ، اور اسے (وہاں سے) رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا؛ اور جو (خوش نصیب) يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ

اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کیلئے وہ کافی ہے؛ بیشک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے؛ مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۳ وَاللَّيْ يَسِّنْ مِنَ الْمَجِيزِ مِنْ نِّسَائِكُمْ ۚ إِنَّ

ہر چیز کے لیے ایک اندازہ - اور تمہاری (مطلقہ) عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر

ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْءُ لَمْ يَحْضُنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں؛ اور حاملہ عورتوں

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

کی میعاد ان کے بچہ جننے تک ہے؛ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی پیدا

يُسْرًا ۷ ذَلِكُمْ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ

فرمادیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے؛ اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دُور کر دیتا ہے اس کی بُرائیوں کو

وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا ۸ أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ دُجْدِكُمْ وَلَا

اور (روز قیامت) اس کے اجر کو بڑا کرے گا۔ انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق اور

لَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلْيَقْرَأُوا

انہیں ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تم انہیں تنگ کرو؛ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ

کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جنیں، پھر اگر وہ (بچے کو) دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم انہیں ان کی

أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَابِنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهَا

اجرت دو، اور (اجرت کے بارے میں) آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق، اور اگر تم آپس میں طے نہ کر سکو تو اسے کوئی دوسری دُودھ

أُخْرَى ۹ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

پلائے۔ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق؛ اور وہ تنگ کر دیا گیا ہے جس پر اسکا رزق

فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ

تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے؛ اور تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا ہے؛ عنقریب

اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا ۱۰ وَكَانَ مِنْ قَرِيْبٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ

اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی دے دے گا۔ کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے اور

رُسُلِهِمْ فَمَا سُبِّهَ أَجْسَابًا شَدِيدًا ۱۱ وَعَدَّ بَنَاهَا عَدَا بَابًا تُكْرَهُ ۱۲ فَذَاقَتْ

اس کے رسولوں (کے فرمان) سے تو ہم نے بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی۔ پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا

وَبَالَ أَمْرَهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۱۳ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۱۴

وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام زرا خسارہ تھا۔ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ

کس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے دانشمندو! جو ایمان لائے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف

ذِكْرًا ۱۰ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا

ذکر، ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی روشن آیتیں تاکہ نکال لے جائے انہیں جو ایمان لے آئے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ

اور نیک عمل کرتے رہے اندھیروں سے نور کی طرف؛ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور

يَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں جن میں وہ لوگ تابد

فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۱۱ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

رہیں گے؛ بلاشبہ اللہ نے اس (مومن) کو بہترین رزق عطا فرمایا۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا

سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا

فرمائے اور زمین کو بھی انہی کی مانند؛ نازل ہوتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو

أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۱۲

کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔

سُورَةُ التَّحْرِيمِ ۶۶ مَكِّيَّةٌ ۱۰۷

سورۃ التحریم مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی آیات ۱۲ اور ۲ رکوع ہیں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

اے نبی (مکرم) آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کیلئے حلال کر دیا ہے، (کیا یوں) آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؛

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۱ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ

اور اللہ تعالیٰ غفور، رحیم ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کی گڑھ کھولنے کا طریقہ (یعنی کفارہ) اور اللہ ہی

مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۱۲ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ

تمہارا کارساز ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا، بہت دانا ہے۔ اور (یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے) جب نبی کریم نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو

حَدِيثًا، فَلَمَّا نَبَّاتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَ

ایک بات بتائی، پھر جب اس نے (دوسری کو) راز بتادیا (تو) اللہ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا آپ نے (اس بیوی کو) کچھ بتادیا اور

أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا

کچھ سے چشم پوشی فرمائی ، پس جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کیا تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے ؛

قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ ۳ إِنْ تَوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ

فرمایا مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علیم و خبیر ہے ۔ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو اور تمہارے دل بھی (توبہ کی طرف) مائل

قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تَظَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَ

ہو چکے ہیں (توبہ تمہارے لیے بہتر ہے) ، اور اگر تم نے ایسا کر لیا آپ کے مقابلہ میں تو (خوب جان لو) کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، جبریل اور

صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۴ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ

نیک بخت مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں ۔ کچھ بعید نہیں کہ اگر

طَلَّقْتُمْ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ مَسَلْتُمْ مَوَدَّةَ

نبی کریم تم سب کو طلاق دے دیں تو آپ کا اب تمہارے عوض آپ کو ایسی بیہیاں عطا فرمادے جو تم سے بہتر ہوں گی مئی مسلمان، ایمان والیاں،

قَنْبِتٍ تَبَيَّتْ عِبَادَاتٍ سَبَّحْتِ تَبَيَّتْ وَأَبْكَرًا ۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

فرمانبردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار ، کچھ پہلے بیہیاں اور کچھ کنواریاں ۔ اے ایمان والو!

أَمِنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس پر

مَلَائِكَةُ غَلَظُ شِدَادُهُ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے شدید سخت مزاج ہیں ، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے انہیں حکم دیا ہے اور فوراً بجالاتے ہیں جو

يَوْمَرُونَ ۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا

ارشاد نہیں فرمایا جاتا ہے ۔ اے کفار! آج بہانہ نہ بناؤ ؛ تمہیں اسی

تُحْزِرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ

کا بدلہ لے گا جو (کرتوت) تم کیا کرتے تھے ۔ اے ایمان والو! اللہ کی جناب میں

تَوْبَةٌ نَصُوحًا ۸ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ

سچے دل سے توبہ کرو ؛ امید ہے تمہارا رب دُور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ

ایسے باغات میں، جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی ، اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ (اپنے) نبی کو

الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، (اس روز) ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب،

يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب! مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، بیشک تو ہر چیز پر پوری طرح

قَدِيرٌ ۸ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

قادر ہے۔ اے نبی! کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سختی کرو؛

عَلَيْهِمْ ۙ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَايُوسُ الْمَصِيدُ ۙ ۹ ضَرَبَ اللَّهُ

اور (آخرت میں) ان کا ٹھکانا جہنم ہے؛ اور وہ لوٹ کر آنے کی بہت بُری جگہ ہے۔ بیان فرمائی ہے اللہ نے

مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتُ نُوحٍ وَّامْرَأَاتُ لُوطٍ ۙ كَانَتَا تَحْتَ

کفار کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال؛ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے

عَبْدَيْنِ ۙ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ ۙ فَكَانَتْهُمَا فَامٌ يَغْنِيَا عَنْهُمَا

دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی پس وہ دونوں (نبی ان کے شوہر) اللہ کے مقابلہ میں انہیں

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۙ ۱۰ وَضَرَبَ

کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح

اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کیلئے فرعون کی بیوی کی مثال پیش فرمائی، جبکہ اس نے دعایاں کی۔ اے میرے رب! بنا دے

لِيَ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ

میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں اور بچالے مجھے فرعون سے اور اسکے (کافرانہ) عمل سے اور

نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۙ ۱۱ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي

مجھے اس ستم پیشہ قوم سے نجات دے، اور (دوسری مثال) مریم دختر عمران کی ہے جس نے اپنے

أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ

گوہر عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے رُوح اور مریم نے تصدیق کی اپنے

رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِيمَانٌ مِمَّا نَحْنُ مُخْلِطُونَ ۙ ۱۲

رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ اللہ کے فرمانبرداروں میں سے تھی۔